

# English to Urdu Sentences

Who am I to forgive you?

میں کون ہوتا ہوں تمہیں معاف کرنے والا

You will make me mad

تم مجھے پاگل کر دو گے

Who is knocking at the door?

دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے؟

I woke up late this morning

آج صبح میں دیر سے بیدار ہوا

Take rest here tonight

آج رات یہیں آرام کرو

We will reach there before time

ہم وقت سے پہلے پہنچیں گے

Be of with you!

ہت تیرے کی!

How do I tell you like?

ایسے کیسے بتاؤں؟

Don't boost of your wealth

اپنی دولت پر فخر نہ کرو

I have been out since morning

میں صبح کا گھر سے نکلا ہوں

I had a sound sleep last night

رات خوب نیند آئی



# English to Urdu Sentences

I have to go to his home

مجھے اس کے گھر جانا ہے

She is so skeptical

وہ بہت شکلی ہے

Compose yourself

خود کو سنبھالو

Who are you to command me like that?

تم مجھے اس طرح حکم دینے والے کون ہوتے ہو؟

When are you throwing a party?

پارٹی کب دے رہے ہو؟

You have never considered me as your own!

تم نے مجھے اپنا سمجھا ہی کب ہے!

You are every dear to me

تم مجھے بہت عزیز ہو

You have not done anything so far

تم نے ابھی تک کچھ کیا ہی کیا ہے

He looks younger than his age

وہ اپنی عمر سے چھوٹا لگتا ہے

It was just a slip of tongue

یہ یونہی زبان سے نکل گیا

He is just dragging on his days

وہ تو بس اپنے دن پورے کر رہا ہے



# English to Urdu Sentences

You should have regarded his age	تمہیں اسکی عمر کا لحاظ رکھنا چاہئے تھا
This opportunity won't arise again	یہ نوبت دوبارہ نہیں آئے گی
The sick man's night is as a mountain	بیمار کی رات پہاڑ برابر
Small in work, great in dispute	کرتوت کوئی نہیں اور لڑنے کو تیار رہتے ہو
How long can you escape the inevitable!	بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی
Buddy, I can say it to his office	یار، یہ بات میں اس کے منہ پر کہ دوں گی
My job was just to tell you	میرا کام بس تمہیں بتانا تھا
You have usurped my right	تم نے میرا حق مارا ہے
I had been compelled	میں مجبور ہو گیا تھا
It is deserted route	یہ راستہ سنسان ہے
I could not recognize you	میں نے تمہیں پہچانا نہیں

